

پاکستان کا مستقل اسلامی دستور :

۳۔ پاکستان کا مستقل اسلامی دستور منظور ہو گیا ہے ۔ اس کی روشنی میں اب ملک کی تعمیر کی جائے گی ۔ گزشتہ ۲۵ سال سے عام آدمی کے خلاف یہاں جو کچھ ہوا ہے اس پر قابو پانے اور اصلاح احوال کے لیے صدر بھٹو جد و جہد کر رہے ہیں ۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ خلافت راشدہ کے دور کا احیاء ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح حضور رسول کریمؐ پر نبوت ختم ہو گئی ہے ، اسی طرح آنحضرتؐ کے صحابہ کرام پر نیکی ، تقویٰ اور بزرگی ختم ہو گئی ہے ، تاہم صدر بھٹو ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں خلافت راشدہ کی روح جلوہ گر ہوگی ۔

(مولانا) کوثر نیازی

بشکریہ روزنامہ مشرق لاہور

۲۴ - اپریل ۱۹۷۳ ع

قوم خوشحالی کی راہ پر :

۴۔ عوام کے منتخب نمائندوں نے اتفاق رائے سے آئین منظور کر لیا ہے جس سے قوم نے بہت بڑے پھران پر قابو پا لیا ہے ۔ اب برے دن بیت گئے ہیں اور قوم ترقی و خوش حالی اور استحکام کی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی ہے ۔ آئین میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے جس میں معاشی و سماجی انصاف اور قانون کے سامنے ہر آدمی کو یکساں حیثیت حاصل ہے ۔ اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی ہے ۔ عدلیہ کو مکمل آزادی دی گئی ہے ۔ آئین سازی میں ایک دوسرے سے تعاون کا راستہ اپنایا گیا ہے ۔ اب سماجی اداروں کو کھل کر کام کرنا چاہیے اور مختلف انجمنوں کو عوامی فلاح کے لیے حکومت سے رابطہ رکھنا چاہیے ۔ جدید دور میں خوشحال معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طویل المیعاد منصوبے بنائے جائیں ۔

بشکریہ روزنامہ مشرق لاہور

۳۰ - اپریل ۱۹۷۳ ع